

ساس کے اپنے داماد کو چومنے اور چھونے کا حکم  
الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں  
کہ اگر ساس اپنے داماد (سن ان لا) کی پیشانی یا رخسار کو چومے تو اس بارے  
میں شریعت کا کیا حکم ہے اور اگر ساس اپنے داماد کے سر کے بالوں کو  
چھوے تو کیا حکم ہے جیسا کہ ہماری کمیونٹی میں ہوتا ہے۔  
سائل: بھائی فرام انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

اگر ساس نے داماد کی پیشانی یا رخسار پر شہوت کے ساتھ بوسہ لیا تو مصاہرت  
ثابت ہو گی اور تو اس مرد کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی اگر  
بغیر شہوت کے ایسا کیا ہے تو حرمت نہ ہوگی۔

جیسا کہ بہار شریعت میں ہے عورت نے شہوت کے ساتھ مرد کو چھوا یا بوسہ  
لیا یا اس کے آلہ کی طرف نظر کی تو اس سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوگئی۔  
(بہار شریعت ج 2 حصہ 7 ص 24 مطبوعہ مکتبۃ المدینۃ)

سر کے بالوں کو چھونے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر ساس نے شہوت کے ساتھ  
اس کے بالوں کو چھوا تو حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی جیسا کہ بہار  
شریعت میں ہے کہ یہاں تک کہ سر پر جو بال ہوں انہیں چھونے سے بھی حرمت  
ہو جاتی ہے۔

(بہار شریعت ج 2 حصہ 7 ص 23 مطبوعہ مکتبۃ المدینۃ)

اور شہوت کی حد یہ ہے کہ مرد کا آلہ متحرک ہو جائے اور اگر پہلے ہی تننا ہوا  
تھا تو چھونے سے تننا زیادہ ہو جائے اور عورت میں شہوت کا اندازہ اس سے  
لگایا جائے گا کہ اس کی اگلی شرمگاہ کا متحرک ہو جائے جیسا کہ درمختار میں  
ہے " وَحَدُّهَا فِيهِمَا تَحْرُكُ آلَتِهِ أَوْ زِيَادَتُهُ بِهِ يُفْتَى فِي امْرَأَةٍ وَنَحْوِ شَيْخٍ كَبِيرٍ تَحْرُكُ  
قُبْلُهُ أَوْ زِيَادَتُهُ " شہوت کی حد یہ ہے کہ مرد کا آلہ متحرک ہو یا اس کا متحرک ہونا  
زیادہ ہو جائے اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا اور عورت یا بوڑھے میں اس کی  
قبل کا متحرک ہونا یا زیادہ ہونا ہے۔

( درمختار کتاب النکاح فصل فی المحرمات ج 3 ص 33)

ساس اور داماد کے آپس میں شہوت کے ساتھ کسنگ (Kissing) کرنے کے بہت  
کم واقعات ہیں لہذا ہر ایک پر یہ حکم نہ لگایا جائے بلکہ بہر صورت علماء سے

رجوع کیا جائے اور مشورہ یہی ہے کہ بغیر شہوت کے بھی ساس کو اپنے داماد کو چومنے سے بچنا چاہیے اور یہی دونوں کے لیے بہتر ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

## RULING REGARDING A WOMAN KISSING OR TOUCHING HER SON-IN-LAW

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

### QUESTION:

What do the scholars and muftis of the noble Shari'ah say regarding the following matter; what is the legal ruling regarding a woman kissing her son-in-law on the forehead or cheek? What is the ruling regarding her touching his hair, like it is commonplace in our community?

Questioner: A brother from England

### ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

If a woman kisses her son-in-law on his forehead or cheek out of lustful desire, then *musaharah* (marriage forbiddance) will be established. His wife will be forbidden upon him forever. If it is not done out of lustful desire, forbiddance will not be established.

It is stated in Bahar-e Shari'at: "If the woman, out of lustful desire, touches or kisses the man, or sees his genitalia, then marriage forbiddance will be established." (Bahar-e Shari'at, vol. 2, part 7, pg. 24)

The same ruling applies to a woman touching her son-in-law's hair out of lustful desire, i.e. marriage forbiddance will be established.

It is stated in Bahar-e Shari'at: "Forbiddance is established even by touching the hair." (Bahar-e Shari'at, vol. 2, part 7, pg. 23)

The indication of lustful desire in a man is the erection of his penis. If it was already erect, then further erection is an indication of the presence of lustful desire. In women, it is indicated by movement of the vagina.

It is stated in Durr al-mukhtar:

وَحَدُّهَا فِيهِمَا تَحَرُّكُ آلَتِهِ أَوْ زِيَادَتُهُ بِهِ يُفْتَى وَفِي امْرَأَةٍ وَنَحْوِ شَيْخٍ كَبِيرٍ تَحَرُّكُ قُبْلُهُ أَوْ زِيَادَتُهُ

Translation: "The limit of lustful desire is erection of the penis or further erection (if it was already erect). Verdict is passed on this basis. In a woman or an old

man, the movement or enlargement of the anterior private organ (indicates lustful desire).” (Durr al-mukhtar, vol. 3, pg. 33)

There are extremely rare instances of a woman kissing her son-in-law. Thus, this verdict is not to be applied to everyone. In any case, scholars must be approached. It is suggested that a woman must not kiss her son-in-law even without lustful desire as it is better for both.

والله اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم  
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

**Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri**

**Translated by the SeekersPath Team**